



نوٹ : تمام سوالات کے جوابات دی گئی جوابی کاپی پر لکھیے۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C, D دیئے گئے ہیں۔ جس جواب کو آپ درست سمجھیں جوابی کاپی پر اس سوال نمبر کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے متعلقہ دائرے کو قلم کی سیاہی سے بھر دیں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔  
Note : Four possible choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question

سوال نمبر 1	اکہرے اندراجی نظام میں اثاثہ جات اور واجبات کی جو لسٹ تیار کی جاتی ہے اُسے کہتے ہیں :
(1)	Statement of Assets and Liabilities prepared under Single Entry System is called : (A) Balance Sheet بیلنس شیٹ (B) Profit and Loss Statement نفع و نقصان کا گوشوارہ (C) Statement of Affairs مالی گوشوارہ معاملات (D) Income Statement مالی گوشوارہ
(2)	Opening Capital is obtained by preparing : (A) Debtors Account کھاتہ مقروضان سے (B) Creditors Account کھاتہ قرض خواہان سے (C) Opening Statement of Affairs کھاتہ نقدی سے (D) Cash Account ابتدائی گوشوارہ معاملات سے
(3)	اکہرے اندراجی نظام کے تحت نفع معلوم کرنے کا فارمولا ہے : In Single Entry System, profit is calculated by formula (A) Opening Capital + Drawing - Fresh Capital - Closing Capital ابتدائی سرمایہ + برداشتی - نیا سرمایہ - آخری سرمایہ (B) Closing Capital + Drawing + Fresh Capital - Opening Capital آخری سرمایہ + برداشتی + نیا سرمایہ - ابتدائی سرمایہ (C) Closing Capital - Drawing + Fresh Capital - Opening Capital آخری سرمایہ - برداشتی + نیا سرمایہ - ابتدائی سرمایہ (D) Closing Capital + Drawing - Fresh Capital - Opening Capital آخری سرمایہ + برداشتی - نیا سرمایہ - ابتدائی سرمایہ
(4)	Entrance Fee is : (A) Expenditure خرچہ (B) Income آمدن (C) Asset اثاثہ (D) Liability ذمہ داری
(5)	مرنے والے شخص کے ترکے سے غیر تجارتی ادارے کو حاصل ہونے والی رقم کہلاتی ہے : Amount Received from the Inheritance of a died person by Non-Trading Concern is called : (A) Donation عطیہ (B) Subscription چندہ (C) Entrance Fee داخلہ فیس (D) Legacy ترکہ
(6)	Sale of Old News Papers is : (A) Income آمدنی (B) Expenditure خرچہ (C) Asset اثاثہ (D) Liability ذمہ داری
(7)	Consignee's Account is : (A) Personal شخصی (B) Real حقیقی (C) Unreal غیر حقیقی (D) Impersonal غیر شخصی
(8)	Del Credere Commission is paid to avoid : (A) Normal Loss معمولی نقصان (B) Abnormal Loss غیر معمولی نقصان (C) Bad Debt ڈوبن قرضہ (D) Trade Loss تجارتی نقصان
(9)	Relation between Consignor and Consignee is : (A) Purchaser and Seller خریدار اور فروخت کار کا (B) Debtor and Creditor مقروض اور قرض خواہ کا (C) Wholeseller and Retailor تحوٰک فروش اور پرچون فروش کا (D) Principal and Agent پرنسپل اور ایجنٹ کا
(10)	Original Cost Method is also called : (A) Fixed Instalment معین اقساط (B) Reducing کم ہوتا ہوا (C) Diminishing کم پزیر (D) Year Digit سالانہ ہندسوں کو جمع کرنا

(11)	کسی اثاثہ کی قیمت میں تبدیلی مارکیٹ میں تبدیلی کی وجہ کے عمل کو کہتے ہیں :	The process of Changing in value of asset due to change in the market value is called :
	(A) Depletion (B) Amortization (C) Fluctuation (D) Obsolescence	(A) Depreciation (B) Amortization (C) Fluctuation (D) Obsolescence
(12)	کس اثاثہ پر فرسودگی نہیں لی جاسکتی :	Which One is not Depreciable Asset :
	(A) Equipments (B) Machinery (C) Land (D) Furniture	(A) Equipments (B) Machinery (C) Land (D) Furniture
(13)	ساکھ کو بڑھایا جاتا ہے کی نسبت سے :	Good will is raised with the ratio :
	(A) Gaining Ratio (B) Capital Ratio (C) New Ratio (D) Old Ratio	(A) Gaining Ratio (B) Capital Ratio (C) New Ratio (D) Old Ratio
(14)	دو یا دو سے زیادہ فرموں کا ایک ہو جانا کہلاتا ہے :	The merger of two or more firms is called :
	(A) Dissolution (B) Liquidation (C) Analgamation (D) Conversion	(A) Dissolution (B) Liquidation (C) Analgamation (D) Conversion
(15)	تا بالغ حصہ دار وہ شخص ہوتا ہے جس کی عمر — سے کم ہو :	Minor Partner is a person whose age is below — :
	(A) 13 Years (B) 15 Years (C) 18 Years (D) 20 Years	(A) 13 Years (B) 15 Years (C) 18 Years (D) 20 Years
(16)	ایک فرم کے لئے براہ راست پر سود ہے :	For a Firm Interest on Drawing is :
	(A) Income (B) Expense (C) Asset (D) Liability	(A) Income (B) Expense (C) Asset (D) Liability
(17)	قانون کا بنایا ہوا مصنوعی شخص کہلاتا ہے :	Artificial Person created by Law is called :
	(A) Society (B) Company (C) Partner (D) Partnership	(A) Society (B) Company (C) Partner (D) Partnership
(18)	پبلک لیٹڈ کمپنی میں ممبران کی زیادہ سے زیادہ تعداد ہے :	Maximum Number of Members in Public Ltd Company is :
	(A) 20 (B) 07 (C) 50 (D) Unlimited	(A) 20 (B) 07 (C) 50 (D) Unlimited
(19)	تمسکات رکھنے والے ہوتے ہیں :	Debenture Holders are :
	(A) Creditors (B) Owners (C) Customers (D) Debtors	(A) Creditors (B) Owners (C) Customers (D) Debtors
(20)	کمپنی کو کاروبار شروع کرنے کا سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے :	Certificate of Commencement of Business is issued by :
	(A) Director (B) Promotor (C) Registrar (D) Managing Agent	(A) Director (B) Promotor (C) Registrar (D) Managing Agent



رول نمبر	1099 - 2020	کامرس گروپ	سیشن (2019 - 21) to (2021 - 23)
پرنسپل آف اکاؤنٹنگ (انشائیہ)	Ist - A - Exam - 2023	Principles of Accounting (Subjective)	
Inter (Part - II)	وقت 2 : 30 گھنٹے	کل نمبر : 80	



ہدایات : حصہ اول یعنی سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3 میں سے ہر سوال کے (5 - 5) اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کرنا لازمی ہے۔ جبکہ حصہ دوم میں سے کوئی سے تین سوالات حل کریں۔  
جوابی کاپی پر دیہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کریں جو کہ سوالیہ پرچہ پر درج ہے۔

Note : It is compulsory to attempt (5 - 5) parts each from Q.No.2 and Q.No.3 while attempt any (03) questions from Part II. Write same Question No. and its Part No. as given in the question paper.

20=2x10

pakcity.org

(Part I) حصہ اول

سوال نمبر 2 (i) اکہرے نظام اندراج اور دوہرے نظام اندراج میں فرق کیجئے۔

Differentiate between Single Entry System and Double Entry System.

Rephrase the meaning of Drawings.

(ii) برداشتی کا مطلب اپنے الفاظ میں بیان کیجئے۔

How Income and Expenditure Account is prepared ?

(iii) آمدنی اور اخراجات کا کھاتہ کیسے بنایا جاتا ہے ؟

Define Non - Trading Concern.

(iv) غیر تجارتی ادارے کی تعریف کیجئے۔

Define Share.

(v) حصص کی تعریف کیجئے۔

What is the main idea of Preliminary Expenses ?

(vi) ابتدائی اخراجات کا مرکزی تصور کیا ہے ؟

What is meant by Market Value of Share ?

(vii) حصص کی بازاری قیمت کا کیا مطلب ہے ؟

What is Registered Capital ?

(viii) منظور شدہ سرمایہ کیا ہوتا ہے ؟

What do you know about the term Depletion ?

سوال نمبر 3 (i) قدرتی وسائل پر فرسودگی کو کیسے بیان کریں گے ؟

Define Amortization.

(ii) غیر مرئی اثاثہ جات پر فرسودگی کی تعریف کیجئے۔

Define Consignor.

(iii) مرسل کی تعریف کیجئے۔

Write the definition of Consignment.

(iv) مال مرسلہ کی تعریف کیجئے۔

Define Del Credere Commission.

(v) ڈیل کریڈریشن کی تعریف کیجئے۔

Define Partnership.

(vi) شراکت داری کی تعریف کیجئے۔

Define the term General Partnership.

(vii) عام شراکت داری کی تعریف کیجئے۔

Define Partnership at Will.

(viii) مرضی کی شراکت داری کی تعریف کیجئے۔

60 = 20 x 3

(Part II) حصہ دوم

(20)

سوال نمبر 4 مسٹر کریم اپنی حالی سب اندراج کے اکہرے نظام کے تحت مرتب کرتا ہے۔ اس کی پوزیشن درج ذیل ہے۔

Mr. Karim keeps his books under Single Entry System. His Position is as under.

Account Title	نام اکاؤنٹ	Ist January 2022 Amount (Rs)	Dec 31st 2022 Amount (Rs)
Cash	نقدی	12000/-	18000/-
Debtors	مقرض	6000/-	9000/-
Stock	ذخیرہ	24000/-	30,000/-
Building	عمارت	1,50,000/-	2,10,000/-
Creditors	قرض خواہ	36000/-	48000/-
Bank Overdraft	بینک اوور ڈرافٹ	3000/-	4800/-

Additional Informations :

اضافی معلومات :

Depreciate building by 10 % .

(i) عمارت پر 10 % فرسودگی لگائیں۔

He withdrew Rs.18000/- for personal use.

(ii) اُس نے کاروبار سے ذاتی استعمال کے لئے 18000/- روپے نکالے۔

He Introduced Rs. 30,000/- as Fresh Capital.

(iii) اُس نے تیس ہزار روپے بطور نیا سرمایہ متعارف کرایا۔

مطلوب : ابتدائی اور اختتامی معاملاتی گوشوارہ تیار کیجئے اور تلف و نقصان کا گوشوارہ بھی بنائیے۔

Required : Prepare Opening and Ending Statements of Affairs and also prepare statement of

Profit and Loss.

(20)

سوال نمبر 5 علی نے یکم جنوری 2015ء کو ایک مشینری مبلغ 92000/- روپے میں خریدی اور اس کو نصف کرنے کے لئے 8000/- روپے خرچ ہوئے۔

مطلوب : اس پر 10 % شرح کے حساب سے کمی پڑھٹایا کے طریقہ کے تحت پانچ سال کے لئے مشینری کا کھاتہ بنائیے۔

Ali purchased a machinery for Rs. 92000/- on Ist January 2015 and spent Rs.8000/- on its Installaion.

Required : Prepare Machinery Account for 5 years if depreciation is charged at 10 % p.a. by Diminishing Balance Method.

P.T.O.



(20) سوال نمبر 6 درج ذیل میں صارفٹس کا وصولیوں اور ادائیگیوں کا کھاتہ دیا گیا ہے۔

Following is the Receipts and Payments Account of Sarim Trust.

Receipts	وصولیاں	Amount Rs.	Payments	ادائیگیاں	Amount Rs.
Donations	عطیات	18450/-	Salaries	مختواہیں	9600/-
Membership Fees	ممبرشپ فیس	3500/-	Utilities	سہولیات	1870/-
Subscription	چندہ	32,760/-	Repair	مرمت	640/-
Sales of Furniture	فرنیچر کی فروخت	1370/-	Machinery	مشینری	5000/-
Misc Receipts	متفرق وصولیاں	950/-	Sundry Expenses	متفرق اخراجات	34530/-
			Closing Balance	اختتامی بقایا	5390/-
<b>Total</b>	<b>کل رقم</b>	<b>57030/-</b>	<b>Total</b>	<b>کل رقم</b>	<b>57030/-</b>

Additional Informations :

Subscription Receivable Rs. 2500/-

Salaries Rs.1200/- are Payable.

Depreciation on Machinery at 10 % p.a.

اضافی معلومات :

1 - چندہ مبلغ 2500/- روپے قابل وصول ہے۔

2 - واجب الادا مختواہیں مبلغ 1200/- روپے ہیں۔

3 - سالانہ مشینری پر فرسودگی 10 % ہوگی۔

مطلوب : سال 31 دسمبر 2019ء کا آمدن اور اخراجات کا کھاتہ تیار کیجئے۔

**Required :** Prepare Income and Expenditure Account for the year ended on 31st Dec 2019.

(20) سوال نمبر 7 زاہد آف ملتان نے مال مرسلہ کے تحت لاہور کے شاہد کو مبلغ 5000/- روپے کا مال بھجوا دیا۔ اس نے 120/- روپے کرایہ اور 80/- روپے بیمہ کے دیئے۔ حساب فروخت یہ ظاہر کرتا ہے کہ شاہد نے مال کا 3/4 حصہ مبلغ 5200/- روپے میں فروخت کر دیا اور شاہد نے اس سلسلے میں 175/- روپے کا خرچہ کیا جبکہ اس کا کمیشن 300/- روپے بنتا ہے۔ مطلوب : زاہد کی کتاب میں جنرل انٹریز اور مال مرسلہ اور مرسل الیہ کا کھاتہ بنائیں۔

Zahid of Multan sent goods to Shahid of Lahore of the value of Rs.5000/- He paid there on Rs.120/- for freight and cartage and Rs.80/- for Insurance. He received account sales showing that the three fourth (3/4) of goods were sold for Rs.5200/- Shahid incurred expenses amounting of Rs.175/- and his Commission is Rs.300/-

**Required :** (i) Record the above transactions in Zahid Journal.

(ii) Prepare Consignment Account and Consignee Account.

(20) سوال نمبر 8 علی کمپنی لمیٹڈ کا منظور شدہ سرمایہ 8,00,000/- روپے جو کہ 8000 حصص میں تقسیم شدہ ہے اور فی حصص کی قیمت 100/- روپے ہے۔ کمپنی نے عوام کو 5000 حصص اصل قیمت پر فروخت کے لئے پیش کئے۔ 6000 حصص کے لئے درخواستیں وصول ہوئیں اور کمپنی نے 5000 حصص جاری کر دیئے۔ 1000 حصص جاری نہیں کئے گئے اور درخواست گزاروں کو ان کی رقم واپس کر دی گئی۔ مطلوب : جنرل انٹریز پاس کیجئے اور بیلنس شیٹ تیار کیجئے۔

Ali Company Ltd. having authorized capital of Rs.8,00,000/- divided into 8000 shares of Rs.100/- each. Company offered 5000 shares to public at par value. Applications for 6000 shares were received and company have been allotted shares of 5000 applicants. No allotment was made to applicants for 1000 shares and their application money was refunded.

**Required :** Pass Journal Entries and prepare Balance Sheet.

(20) سوال نمبر 9 سلیم اور کلیم ایک کاروبار میں حصہ دار ہیں۔ سلیم کا سرمایہ مبلغ 50,000/- روپے اور کلیم کا سرمایہ مبلغ 10,000/- روپے ہے۔ شراکتی معاہدہ کے تحت : (a) سلیم کو 6000/- روپے سالانہ تنخواہ ادا کی جائے گی۔ (b) سرمایہ پر سود 6 % سالانہ دیا جائے گا۔ (c) باقی نفع حصہ داروں میں برابر تقسیم ہوگا۔ فرم کا سال کا نفع مبلغ 40,000/- روپے ہے۔

مطلوب : نفع و نقصان کا کھاتہ بنائیں اور حصہ داروں کے سرمایہ کے کھاتے بنائیں۔

Saleem and Kaleem are partners in a Business with capital of Saleem Rs.50,000/- and Kaleem Rs.10,000/- The partnership deed provide that : (a) Saleem will receive Salary Rs.6000/- p.a. (b) Interest on Capital @ 6 % p.a. (c) Remaining profit will be divided equally.

The profit of the firm for the year is Rs.40,000/-

**Required :** Prepare Profit and Loss Appropriation Account and also partners capital account.





نوٹ : تمام سوالات کے جوابات دی گئی جوابی کاپی پر لکھیے۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C, D دیئے گئے ہیں۔ جس جواب کو آپ درست سمجھیں جوابی کاپی پر اس سوال نمبر کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے متعلقہ دائرے کو قلم کی سیاہی سے بھر دیں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کات کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔  
Note : Four possible choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question

1	اگر نظام حساب نویسی کے تحت اثاثہ جات، واجبات اور مالک کی ملکیت کے گوشوارے کو کہتے ہیں :	
(1)	Under Single Entry System, a statement of Assets, Liabilities and Owner's Equity is called : (A) بیلنس شیٹ (B) Balance Sheet گوشوارہ معاملات (C) نفع و نقصان گوشوارہ (D) Profit and Loss Statement یہ تمام	
(2)	قانونی پابندیوں کی وجہ سے کون سا کاروبار اکہرا نظام حساب نویسی استعمال نہیں کر سکتا : Due to Legal Restrictions, which business can not adopt Single Entry System : (A) واحد ملکیتی کاروبار (B) Sole Trader شراکتی کاروبار (C) مشترکہ سرمایہ کی کمپنی (D) Joint Stock Company یہ تمام	
(3)	اگر نظام حساب نویسی کے تحت معلوم کرنا ممکن نہیں : Under Single Entry System, it is not possible to know : (A) صحیح نفع (B) Correct Profit مالی حالت (C) Financial Position صحیح نقصان (D) Correct Loss یہ تمام	
(4)	غیر تجارتی اداروں کا بنیادی مقصد ہے : The primary objective of Non - Trading concerns is : (A) نفع کمانا (B) To Earn Profit فلاح و بہبود (C) Welfare تجارت (D) Trading یہ تمام	
(5)	سالانہ رقم جو ایک غیر تجارتی ادارے کا ممبر ادا کرتا ہے، کہلاتی ہے : Annual Amount paid by a member of non - trading concern is called : (A) چندہ (B) Subscription عطیات (C) Donations وراثت (D) Legacy ممبر شپ فیس (E) Membership Fee	
(6)	آمدنی اور اخراجات کا کھاتہ ——— معلوم کرنے کے لئے بنایا جاتا ہے : The Income and Expenditure Account is prepared to know ——— : (A) فائدہ (B) Surplus خسارہ (C) Deficit اور A اور B دونوں (D) Both A and B چندہ (E) Subscription	
(7)	ایک شخص جو غیر تجارتی ادارے کا ملازم نہ ہو اس کو اس کی خدمات کے بدلے میں ادا کردہ رقم کو کہتے ہیں : The Amount paid as reward of services, rendered to a person who is not an employee of a non - trading concern is called : (A) اعزازیہ (B) Honorarium تنخواہ (C) Salary اجرتیں (D) Wages کمیشن (E) Commission	
(8)	قدرتی وسائل کی لاگت کو خرچ میں تقویض کرنے کو کہتے ہیں : Allocation of Cost of Natural Resources into an Expense is called : (A) وینسٹیشن (B) Depletion امارت زنیٹیشن (C) Amortization فرسودگی (D) Depreciation یہ تمام	
(9)	غیر مرئی اثاثہ جات کی لاگت کو خرچ میں تقویض کرنے کو کہتے ہیں : Allocation of Cost of Intangible Assets into Expense is called : (A) وینسٹیشن (B) Depletion امارت زنیٹیشن (C) Amortization فرسودگی (D) Depreciation یہ تمام	
(10)	ان اثاثوں میں سے کونسا اثاثہ مرئی ہے : Which one of these Assets is a Tangible Asset : (A) کاپی رائٹس (B) Copy Rights تجارتی نشان (C) Trade Mark آلات (D) Equipments کاروباری ساکھ (E) Good Will	



(11)	جس شخص کو اشیاء مال مرسلہ کے طور پر بھیجی جاتی ہیں کہلاتا ہے :	The person to whom goods are sent on Consignment Basis is called :
(12)	مرسل اور مرسل الیہ کے درمیان تعلق کی نوعیت ہوتی ہے :	All these (A) Consignor مرسل الیہ (B) Consignee مرسل (C) فروخت کنندہ (D) Seller یہ تمام
(13)	پروفارما انوائس تیار کرتا ہے :	The relationship between Consignor and Consignee is that of :
(14)	وہ حصص جن پر پہلے سے طے شدہ حساب سے مقوم دیا جاتا ہے کہلاتے ہیں :	Seller and Buyer (A) مالک اور کارندہ (B) Principal and Agent فروخت کنندہ اور خریدار (C) مقروض اور قرض خواہ (D) Debtor and Creditor یہ تمام
(15)	مشترکہ سرمایہ کی انجمن کے مالک کون ہیں :	A Proforma Invoice is prepared by the :
(16)	حصص کو جاری کیا جاسکتا ہے :	Agent (A) مرسل الیہ (B) Consignee خرید کنندہ (C) Buyer مرسل (D) Consignor نمائندہ / کارندہ
(17)	جو شخص ایک کمپنی کو معرض وجود میں لانے کی جدوجہد کرتا ہے کہلاتا ہے :	Shares on which Dividend is paid at predetermined fixed rate are called :
(18)	ایک عام شراکتی کاروبار کی صورت میں حصہ داروں کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے :	Preference Shares (A) عام حصص (B) Common Shares ترجیحی حصص (C) Deferred Shares (D) یہ تمام
(19)	جب نفع و نقصان کی تقسیم سے متعلق شراکتی معاہدہ خاموش ہو تو اسے حصہ داروں میں تقسیم کیا جاتا ہے :	Who are the Owners of Joint Stock Company :
(20)	اگر ایک نیا حصہ دار پُرانے حصہ دار سے حصص خریدتا ہے تو حق ملکیت کا میزان ہوتا ہے :	All these (A) شراکت دار (B) Partners تمسک دار (C) Debenture Holders شیئر ہولڈرز (D) Share Holders یہ تمام
	When Partnership Agreement is silent about profit and loss sharing ratio, it is distributed among the partners :	Shares can be issued at :
	On Capital Basis (A) برابر (B) سرمایہ کی بنیاد پر (C) ہر حصہ دار کے وقت صرف کرنے کی بنیاد پر (D) Time Devoted by the Partners خدمات کی بنیاد پر	All these (A) اصل قیمت پر (B) At Par منافع پر (C) At Premium (D) At Discount یہ تمام
	If new partner purchases share from an existing partner, the total owner's equity will :	The person who efforts to create a company is called :
	All these (A) کم (B) زیادہ (C) Increase کوئی تبدیلی نہیں (D) No Change یہ تمام	Promotor (A) ناظم (B) Director چیئر مین (C) Chairman حصص دار (D) Shareholder پرموٹر



(2018 - 20 ) to ( 2020 - 22 ) سیشن	Inter ( Part - II )	1336 - 2022	رول نمبر
Principles of Accounting (Subjective)	کامرس گروپ	Inter - A - 2022	پرنسپل آف اکاؤنٹنگ (انشائیہ)
کل نمبر : 80	وقت : 2 : 30 گھنٹے		



ہدایات ﴿ حصہ اول یعنی سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3 میں سے ہر سوال کے (5 - 5) اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کرنا لازمی ہے۔ جبکہ حصہ دوم میں سے کوئی سے تین سوالات حل کریں۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کریں جو کہ سوال پر چپ پر درج ہے۔

Note : It is compulsory to attempt (5 - 5) parts each from Q.No.2 and Q.No.3 while attempt any (03) questions from Part II. Write same Question No. and its Part No. as given in the question paper.

20=2x10

( Part I ) حصہ اول

Bahawalpur Board-2022

What is meant by Single Entry System ?

سوال نمبر 2 (i) سنگل انٹری سسٹم سے کیا مراد ہے؟

(ii) لٹچ اخذ کیجئے اگر اختتامی سرمایہ 30,000/- روپے ہو اور ابتدائی سرمایہ 24000/- روپے ہو۔

Derive the Profit if ending capital is Rs. 30,000/- and Opening Capital is Rs. 24000/-

Explain Proforma Invoice.

(iii) پروفارما انوائس کی وضاحت کیجئے۔

Define Consignment.

(iv) مال مرسلہ کی تعریف کیجئے۔

Explain Del Credere Commission.

(v) ڈیل کریڈر کمیشن کی وضاحت کیجئے۔

Solve. Opening Assets - Opening Liabilities =

(vi) حل کیجئے۔ ابتدائی اثاثہ جات - ابتدائی واجبات =

Define Legacy.

(vii) ترکہ کی تعریف کیجئے۔

What is meant by Membership Fee ?

(viii) ممبر شپ فیس سے کیا مراد ہے؟

What can you point out about Scrap Value ?

سوال نمبر 3 (i) کھار کی قیمت کے متعلق آپ کیا نشاندہی کرتے ہیں؟

What explanation do you have for Tangible Assets ?

(ii) مرئی اثاثہ جات کی آپ کیا وضاحت کرتے ہیں؟

Define Subsidiary Company.

(iii) ذیلی کمپنی کی تعریف کیجئے۔

Define Modarba Company.

(iv) مضاربہ کمپنی کی تعریف کیجئے۔

What is meant by Registered Company ?

(v) رجسٹرڈ کمپنی سے کیا مراد ہے؟

Define Firm.

(vi) فرم کی تعریف کیجئے۔

Define Nominal Partner.

(vii) نمائشی حصدار کی تعریف کیجئے۔

What is meant by Partnership ?

(viii) شراکت سے کیا مراد ہے؟

( Part II ) حصہ دوم

سوال نمبر 4 درج ذیل میں امجد ٹریڈرز کی یکم جنوری 2012 اور 31 دسمبر 2012 کی مالی حالت دی گئی ہے جو کہ مالی کتابیں اکھرے نظام اندراج کے تحت رکھتے ہیں۔

Below is the Financial Position of Asjad Traders on 1st January 2012 and 31st December 2012 who keeps his books on Single Entry System.

Particulars	Amounts 01-01-2012 (Rs)	Amounts 31-12-2012 (Rs)
Cash نقدی	7900	23,600
Stock ذخیرہ	19,000	43,000
Debtors دین دار	6590	13,875
Creditors لین دار	4300	9340
Furniture فرنیچر	12,000	20,000
Building عمارت	50,000	50,000

سال کے دوران امجد ٹریڈرز نے کاروبار سے 15000/- روپے ذاتی استعمال کے لئے نکلوائے اور 30,000/- روپے مزید سرمایہ کاروبار میں لگایا۔ وہ فرنیچر پر فرسودگی 5 % سالانہ سے لگاتے ہیں۔

During the year, Asjad Traders with drew cash of Rs. 15000/- from the business for personal use and invested Rs.30,000/- as fresh capital in the business. He depreciate furniture @ 5 % p.a.

مطلوب : گوشوارہ معاملات تیار کیجئے اور گوشوارہ نفع و نقصان بھی تیار کیجئے۔

Required : Prepare Statement of affairs and also prepare statement of Profit and Loss.

سوال نمبر 5 یکم جنوری 2020ء کو عزیز کمپنی نے ایک مشینری 1,50,000/- روپے میں خریدی اور اس کو نصب کرنے پر 25000/- روپے ادا کئے۔ مشینری کی عمر اندازاً 5 سال ہے جس کے بعد اس کی کھار کی قیمت 10,000/- روپے ہوگی۔

(20)

On 1st Jan. 2020 Uzair Company purchased a machinery for Rs.1,50,000/- and paid for its installation

Rs.25000/-. Estimated life of the Machinery is 5 years after which its scrap value will be Rs.10,000/-

مطلوب : فرسودگی کی سالانہ رقم مقررہ قسط کے طریقہ کے تحت معلوم کیجئے اور پانچ سال کا مشینری کا کھارہ تیار کیجئے۔

Required : Find the amount of annual depreciation according to fixed instalment method and prepare machinery account for 5 years.

P.T.O.



سوال نمبر 6 گولڈن کلب کے درج ذیل وصولیوں اور ادائیگیوں کے کھاتہ سے 31 دسمبر 2021ء کو کھاتہ آمدن و خرچ تیار کیجئے۔

(20)

From the following receipts and payments accounts of Golden Club, prepare an Income and Expenditure Account for the year ended on 31st December 2021

Receipts وصولیاں	Rs.	Payments ادائیگیاں	Rs.
Opening Balance ابتدائی بیلنس	130	Rates محصولات	2500
Entrance Fee داخلہ فیس	210	Stationery سفیشری	3950
Subscriptions چندہ جات	11010	Building عمارت	2500
Lockers Rent لاکرز کا کرایہ	300	Repairs مرمتیں	300
Miscellaneous Fee متفرق فیس	1660	Closing Balance اختتامی بیلنس	4060
Total کل	13,310	Total کل	13,310

The following informations are available :

درج ذیل معلومات دستیاب ہیں :

Lockers Rent Rs.30/- for the current year is unpaid.

1 لاکرز کا کرایہ -/30 روپے رواں سال کا بھایا ہے۔

Rates are still pending Rs.620/- for this year.

2 رواں سال کے ریش -/620 روپے بتایا ہیں۔

Subscription outstanding for the current year Rs.210/-

3 اس سال کیلئے چندہ -/210 روپے واجب الوصول ہے۔

سوال نمبر 7 یکم جنوری 2018ء کو رضوان نے 1000 انرجی سیورجن کی لاکٹ -/75000 روپے تھے عرفان کو مال مرسل کے طور پر روانہ کئے۔ اس نے -/1500 روپے مال برداری اور بیمہ ادا کئے۔ 31 دسمبر 2018ء کو کھاتہ فروخت وصول ہوا جس میں ظاہر کیا گیا کہ 900 انرجی سیور بحساب -/95 روپے کی یونٹ فروخت کئے۔ عرفان نے -/1000 روپے تھیمبر پر خرچ کئے۔ عرفان کو فروخت کا %5 کمیشن ملے گا۔ مطلوب : جرنل میں انٹریز کیجئے رضوان کی کتاب میں اور مال مرسل کا کھاتہ بھی بنائیے۔

(20)

On 1st January 2018, Rizwan sent 1000 units of Energy Savers costing Rs. 75000/- to Irfan on Consignment basis. He paid Rs. 1500/- freight and insurance. On 31st December 2018, an account sale received from Irfan showing that 900 units of energy savers were sold at Rs.95/- each. Rs.1000/- Advertising Expenses paid by Irfan. Irfan is entitled to commission @ 5 % on sales. Required : Pass Journal Entries in the books of Rizwan and also prepare consignment account.

سوال نمبر 8 نور لیڈز میں پانچ لاکھ روپے کے منظور شدہ سرمایہ جس کو پانچ ہزار حصص بحساب مبلغ -/100 روپے کی کسی میں تقسیم کر کے بنایا گیا ہے۔ کمپنی نے تین ہزار حصص عوام کو روپے فی حصہ زائد رقم پر جاری کئے۔ 3500 حصص کی درخواستیں وصول ہوئیں جن میں سے 500 حصص درخواست گزاروں کو جاری نہیں کئے گئے اور ان کو رقم واپس کر دی گئی۔ تین ہزار حصص درخواست گزاروں کو جاری کر دیئے۔ مطلوب : کمپنی کی کتابوں میں جرنل انٹریز درج کیجئے اور بیلنس شیٹ بنائیے۔

(20)

Noor Limited formed with registered capital of Rs.5,00,000/- which is divided into 5000 shares of Rs.100/- each. The company issued 3000 shares to Public at a premium of Rs.10/- for subscription. Applications for 3500 shares were received. No allotment was made to the applicants of 500 shares and their applications money was refunded. 3000 shares were allotted to the applicants. Required : Pass Journal Entries and also prepare Balance Sheet.

(20)

سوال نمبر 9 A اور B نے یکم جنوری 2018ء کو شراکتی کاروبار شروع کیا۔ درج ذیل باتوں پر منافع میں سے دینے کیلئے متفق ہوئے :

- 1- A کو -/800 روپے کے حساب سے ہر ماہ تنخواہ ملے گی۔
- 2- سرمایہ پر سود %12 سالانہ کے حساب سے دیا جائے گا۔
- 3- بچ جانے والا منافع حصہ داروں میں برابر تقسیم کیا جائیگا۔

A یکم جنوری 2018ء کو -/80,000 روپے سرمایہ لایا جبکہ B یکم اپریل 2018ء کو -/1,40,000 روپے سرمایہ لایا۔ سال کے دوران A کی برداشتیں -/20,000 روپے اور B کی برداشتیں -/26,000 روپے ہوئی۔ تمام معاملات سے پہلے منافع -/80,000 روپے کیا گیا۔ مطلوب : نفع و نقصان تقسیم کا حساب اور حصہ داروں کے سرمایہ کا حساب تقریر پذیر طریقہ کے تحت تیار کیجئے۔

A and B formed a partnership on 1st January 2018. They agreed that out of Profit :

- 1- A should receive salary of Rs.800/- p.m.
2. Interest on capital should be allowed @ 12 % p.a.
- 3- Remaining profit be divided equally .

A brought a capital of Rs.80,000/- on 1st January 2018 while B brought Rs.1,40,000/- on 1st April 2018. During the year drawings were A Rs.20,000/- and B Rs.26,000/-; Profit before above noted expenses was Rs.80,000/- Required : Prepare Profit and Loss Appropriation Account and Partners Capital Account under Fluctuating Method.

